

ذاتی تحفظ

بیداری
آپ کے تحفظ کی
کلید ہے



ہیوسٹن کو

محفوظ

رکھیے



ہنگامی 9-1-1 پولیس غیر ہنگامی 713-884-3131

عام معلومات کے لیے، اپنے مقامی پولیس اسٹیشن
سے رابطہ کریں (ذیل میں نمبر فراہم کیے گئے ہیں)

یا


پبلک افیئرز سے اس نمبر پر رابطہ کریں
713-308-3200

مزید معلومات کے لئے، ملاحظہ کریں
www.houstonpolice.org

ہوسٹن پولیس اسٹیشنز

ایرپورٹ - بش	281-230-6800
ایرپورٹ - ہابی	713-845-6800
سنٹرل	713-247-4400
کلیئر لیک	281-218-3800
ایسٹ سائڈ	713-928-4600
کنگ ووڈ	281-913-4500
مڈ ویسٹ	832-394-1200
شمال	281-405-5300
شمال مشرق	713-635-0200
شمال مغرب	713-744-0900
جنوبی سنٹرل	832-394-0200
جنوبی جیسٹر	832-394-4700
جنوب مشرق	713-731-5000
جنوب مغرب	713-314-3900
اسپیشل اوپس	832-394-0000
ویسٹ سائڈ	281-584-4700

جرم کا تکون



جرائم کا تکون تین عوامل کی شناخت کرتا ہے جو کسی
مجرمانہ خلاف ورزی کا باعث ہوتا ہے۔

مجرم کی جرم انجام دینے کی خواہش؛ مجرم کی خواہش کا
ہدف؛ اور ارتکاب جرم کا موقع۔

آپ مجرم کو موقع نہ دے کر جرم کے تکون کو توڑ سکتے
ہیں۔ ہوشیار رہیں اور ہمہ وقت اس بات سے واقف رہ کر
بہتر قوت فیصلہ کا استعمال کریں کہ آپ کے ارد گرد کون
اور کیا ہے۔ آپ آسان ہدف بننے سے بچ سکتے ہیں۔

یاد رکھیں!

آگہی آپ کے تحفظ کی کلید ہے۔

بیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ چاہتا ہے کہ
آپ محفوظ رہیں! ذاتی تحفظ کے ان مفید نکات
پر عمل کر کے، آپ ان مواقع کو کم کریں گے جس
کی تلاش مجرموں کو کسی جرم کے شکار کو ہدف
بنانے کے لیے ہوتی ہے۔

گھر پر تحفظ

- جب آپ گھر پر ہوں تو دروازوں اور کھڑکیوں کو مقفل رکھیں۔ مجرم آسان ترین داخلے والے گھروں کو ڈھونڈتے ہیں۔
- 190 ڈگری کے زاویہ نظر والے جھروکے نصب کریں تاکہ آپ اس کی تصدیق کر سکیں کہ آپ کے دروازے کے دوسری طرف کون ہے۔
- اپنے گھر کا باہر کا دروازہ کھولنے سے پہلے، جان لیں کہ دروازے پر کون ہے اور کسی غیر متوقع ملاقاتی کے لیے دروازہ نہ کھولیں۔ اس میں کمپنی کے ملازمین اور دیگر وکلاء شامل ہیں۔
- باہر کی جانب روشنی گھس پیٹھیوں سے اضافی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ سستے ٹائمز یا فوٹو الیکٹرک سیلز شام کے دھندلکے اور طلوع صبح کے وقت روشنیوں کو خود بخود آن اور آف کر دیں گے۔

سڑک سے متعلق حسیت

- اعتماد کے ساتھ چلیں۔ یہ پیغام دیں کہ آپ پرسکون، پر اعتماد ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، اور جانتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔
- تعداد میں تحفظ۔ اچھی طرح سے روشن سڑکوں پر سفر کریں اور سنسان علاقوں سے ہو کر گزرنے والے مختصر راستوں سے بچیں۔
- کوشش کریں کہ پرس اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ لیکن اگر ضروری ہو تو، اسے اپنے بازو کے نیچے محفوظ طور پر رکھیں۔ کبھی بھی پرس کا فیتہ اپنے بازوؤں کے گرد نہ لپیٹیں یا اپنا پرس چھیننے کی کوشش کرنے والے چور کے ساتھ زور آزمائی نہ کریں۔ آپ سنگین طور پر زخمی ہو سکتے ہیں۔
- زیادہ مقدار میں نقدی یا تحریص دینے والے دوسرے آئٹمز، جیسے مہنگے زیور یا لباس کی نمائش کرنے سے بچیں۔
- گلیوں میں سامان بیچنے والے ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو مول بھاؤ والی قیمت پر کچھ بیچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگرچہ یہ سنے میں مناسب ہی لگے، لیکن ممکن ہے حقیقت اس کے برعکس ہو۔
- گاڑی سے متعلق تحفظ
- اچھی طرح روشن جگہوں پر پارک کریں تاکہ آپ دور سے ہی اپنی کار اور آس پاس کو دیکھ سکیں۔
- اپنی کار کی چابیاں تیار رکھیں، اپنی کار کے چاروں طرف اور اس کے نیچے دیکھیں اور اس کے پاس پہنچنے سے پہلے مشتبہ افراد کے مدنظر قریب میں کھڑی کی ہوئی دوسری گاڑیوں کا مشاہدہ کریں۔
- اپنی کار میں کسی کے چھپے ہوئے کو چیک کرنے کے لیے اس میں داخل ہونے سے پہلے پچھلی سیٹ اور فلور بورڈز پر ایک نظر ڈالیں۔

• اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو، گھر نہ جائیں۔ گاڑی چلا کر قریب ترین تھانے، فائر اسٹیشن، کھلے گیس اسٹیشن، یا اچھی طرح سے روشن جگہ یا ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو آپ کی مدد کر سکیں۔

• اگر آپ کی کار میں خرابی ہے تو، مدد کے اشارے کے لیے ہوڈ کو اٹھائیں اور دروازے کے بینڈل میں سفید کپڑا باندھیں۔ کار میں واپس جائیں اور کھڑکی اور دروازے بند کر دیں۔ اگر کوئی رکتا ہے تو، انہیں مدد کے لیے کال کرنے کو کہیں۔ کسی سے بھی سواری کی پیشکش قبول نہ کریں۔

عوامی لفٹ

- اگر آپ کو کسی ایسے شخص سے پریشانی ہے جو آپ کے ساتھ لفٹ کا انتظار کر رہا ہے تو، یہ ظاہر کریں کہ آپ کچھ بھول گئی ہیں اور لفٹ میں سوار نہ ہوں۔
- سوار ہونے سے قبل یہ یقینی بنانے کے لیے اندر دیکھ لیں کہ کوئی مشتبہ لگنے والا فرد نہ ہو، اگر ایسا ہو تو سوار نہ ہوں۔
- اندر جانے کے بعد، کنٹرولز کے قریب کھڑی ہوں اور ایمرجنسی بٹنوں سے واقفیت پیدا کریں۔
- اگر کوئی مشتبہ شخص سوار ہو تو آپ باہر نکل جائیں۔
- اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو، الارم اور جتنے فلور کے بٹن ممکن ہو سکتے ہوں دبائیں۔

کام سے متعلق تحفظ

- ماتحت ساتھی کارکنان کے ٹیلیفون نمبر یا پتے ان کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی نہ دیں۔
- کام پر موجود لوگوں کے سامنے ذاتی منصوبوں کا افشاء کرنے میں احتیاط برتیں۔